

عزیز والدین اور خاندان،

ہماری سی پی ایس کمیونٹی کی صحت اور بہبود ہماری اعلیٰ ترجیح ہے۔ COVID-19 صحت بحران کے حوالہ سے حکومت کی جانب سے احکامات کی بنا پر، سبھی ضلعی اسکول اب منگل، 30 مارچ تک بند رہیں گے۔ اس بندش سے ہماری کمیونٹی پر پڑنے والے اثر کا مجھے اعتراف ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس سے ہمارے طلبہ، کارکنان اور ہمارے اسکول پر بھروسہ کرنے والے ملازمت پیشہ خاندانوں پر بوجھ پڑے گا۔ COVID-19 بچوں کے تئیں ہمارے کام پر روک نہی لگائے گا، اور ہم آپ کی معاونت کو حاضر ہی۔

### یہ رہی متعدد اہم یاد دہانیاں:

#### خاندانوں کے لیے اسکول کی عمارتوں تک رسائی اور غذائی امداد

- منگل، 17 مارچ سے، سبھی اسکول سہولیات بند رہیں گی تاکہ ان کی اچھی طرح صفائی کی جا سکے، اور اس بندش کے دوران آپ کو عمارت کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہی ہو گی۔
- اسکولوں کے بند رہنے کے وقت، سی پی ایس ہمارے طلبہ کو صحت بخش غذائی فراہم کرے گی۔ سی پی ایس خاندان کسی بھی سی پی ایس اسکول سے مفت غذائی پیکٹ حاصل کر سکتے ہیں، جن میں گھرانہ کے ہر طالب علم کے لیے تین دنوں کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے شامل ہوں گے، لیکن اس سے ووگن آکیویشن ہائی اسکول اور شیرئی ڈان میتھ اینڈ سائنس اکیڈمی مستثنیٰ ہیں۔ غذا کے حصول کا انتظام باہر کیا جائے گا، اور خاندانوں کے کھانا حاصل کرتے وقت سیف پیسیج کارکنان اپنے معمول کے مفوضہ راستوں پر ہوں گے۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو، تو برائے مہربانی سی پی ایس کمانڈ سینٹر کو (KIDS) 5437-553-773 پر کال کریں یا [familyservices@cps.edu](mailto:familyservices@cps.edu)

#### تعلیمی ترقی

- ماقبل کے-12 ویں طلبہ کے لیے گریڈ کی سطح کی سرگرمی پیکٹس دستیاب ہیں جو طلبہ کے لیے غیر ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل سرگرمیوں پر مشتمل ہیں۔ ان پیکٹس کی گریڈنگ نہی کی جائے گی اور اس مدت کے دوران طالب علم کے ساتھ بھیجے گئے کسی کام پر گریڈنگ لاگو نہی ہو گی۔ والدین گریڈ سطح کے پیکٹس [cps.edu/enrichmentresources](https://cps.edu/enrichmentresources) سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پیکٹس کی نقلی غذاؤں کی تقسیم کے مقام پر بھی دستیاب ہوں گی۔

#### ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کا استعمال

- ہمارے طلبہ کی حساس ذاتی قابل شناخت معلومات کی سی پی ایس کے ذریعہ حفاظت کو یقینی بنانے کی خاطر، جیسے کہ ان کے نام کا پہلا حصہ، تاریخ پیدائش، اور ناموں کی فہرست میں شامل دیگر معلومات، ہم اسکولوں کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ طلبہ اور خاندانوں سے مواصلت کرنے کے لیے صرف سی پی ایس کے ذریعہ منظور شدہ مصنوعات استعمال کریں۔ تاہم، اگر اسکول مبنی بر ویب غیر منظور شدہ مصنوعات کے استعمال کا مشورہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اگر اسکولوں کی مکمل یا جزوی بندش کی صورت میں اسکول طلبہ کے ساتھ مواصلت کرتے ہیں تو ان کے لیے والدین کو مناسب طور پر مطلع کرنا اور [قابل قبول استعمال پالیسی](#) کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ مواصلت کی درج ذیل اجازت یافتہ اور ممنوعہ شکلوں کو ذہن میں رکھیں۔

اجازت یافتہ	ممنوعہ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• طالب علم کے سی پی ایس ای میل اکاؤنٹ پر ای میل</li> <li>• سی پی ایس گروپ میسجنگ ایپ کے توسط سے میسجنگ</li> <li>• بھیجنا، جیسے کہ گوگل ہینگ آؤٹ، کسی ملازم سی پی ایس اکاؤنٹ سے کسی طالب علم سی پی ایس اکاؤنٹ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• طالب علم کے ذاتی موبائل کے توسط سے کسی طالب علم کے ساتھ انفرادی طور پر براہ راست مواصلت</li> <li>• طالب علم کے ذاتی ای میل اکاؤنٹ کے توسط سے مواصلت</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا طالب علم کے ساتھ سی پی ایس کاروبار یا مواصلت انجام دینے کے لیے استعمال</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>کو طلبہ کی جماعتوں کو باہری مقدار میں میسج بھیجنا بشرطیکہ والد(والدہ)سرپرست اس بات کی تحریری اجازت فراہم کر دیں کہ ان کا بچہ میسجز موصول کر سکتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی طرح ان اطلاعات کو خود کے لیے موصول کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں</li><li>طلبہ کے ساتھ سوشل میڈیا کے توسط سے اس صورت میں مواصلت کہ اکاؤنٹ تدریسی، تعلیمی یا غیر نصابی پروگراموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، پرنسپل نے اکاؤنٹ کے لیے تحریری منظوری فراہم کر دی ہو، اور والدین کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور اس کے مقصد کے بارے میں اطلاع دی گئی ہو</li></ul>
---	--

میں خاندانوں کو تاکید کرتی ہوں کہ طبی نگہداشت حاصل کرنے کے علاوہ مقاصد کے لیے گھروں سے نہ نکلیں۔ سب سے زیادہ قابل اعتماد معلومات کے لیے، برائے مہربانی [www.chicago.gov/coronavirus](http://www.chicago.gov/coronavirus) یا [www.cdc.gov/coronavirus](http://www.cdc.gov/coronavirus) ملاحظہ کریں۔ اسکول سے مخصوص اپڈیٹس کے لیے، [www.cps.edu/coronavirus](http://www.cps.edu/coronavirus) ملاحظہ کریں۔ اگر آپ کو طبی نگہداشت مرکز کا پتہ لگانے میں مدد کی ضرورت ہو، تو برائے مہربانی سی پی ایس آفس سٹوڈنٹ ہیلتھ اینڈ ویلنیس سے [oshw@cps.edu](mailto:oshw@cps.edu) پر یا ہیلتھ سی پی ایس ہاٹ لائن (KIDS) 5437-553-773 پر کال کر کے رابطہ کریں۔

یہ ہم سبھی کے لیے بالکل ہی نئی چنوتی ہے، اور ہماری ٹیم اپنی سکت بھر آپ کی معاونت کرنے کے تئیں پابند عہد ہے۔ ہم آپ کو تازہ ترین جانکاریاں دیتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کا اپنے اسکول میں جلد از جلد خیر مقدم کریں گے۔

جانیس کے جیکسن، محکمہ تعلیم  
چیف ایگزیکٹو آفیسر  
شکاگو پبلک اسکولز